

برامپٹن سٹی کے اپنی مثال آپ بجٹ میں ٹیکسوں میں صفر فیصد اضافہ کیا گیا: جو تقریباً 20 سالوں کے دوران اپنی نوعیت کا کم ترین اضافہ ہے

برامپٹن، آن (27 مارچ 2019) - کونسل نے آج متفقہ طور پر برامپٹن کا بجٹ برائے سال 2019 منظور کر لیا ہے جس میں ٹیکسوں میں اوسطاً صفر فیصد تبدیلی کی گئی ہے، جو کہ تقریباً 20 سال میں کم ترین ہے۔

برامپٹن کے بجٹ برائے 2019-2021 کی سرخیوں میں شامل ہیں: رش سے بچنے کے لیے بسوں کے فلیٹ میں 16 فیصد اضافہ کرنا، متعدد تفریحی مراکز بشمول کرس گیسن اور چنگواکوسی ویلنٹس سنٹر کی تجدید نو کرنا اور کلیدی معاشی شعبوں کی ترغیب کے لیے ایک کمیونٹی امپروومنٹ پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا۔

منظور شدہ بجٹ، 2019 کے دوران پراپرٹی ٹیکس میں 1.1 فیصد کے مجموعی اضافے کا سبب بنے گا۔ اس میں سٹی (صفر فیصد)، ریجن آف پیل (1.1 فیصد اضافہ) اور اسکول بورڈز (صفر فیصد) کی جانب سے ٹیکس میں کی جانے والی اوسط تبدیلیاں شامل ہیں۔

ٹیکس میں مجموعی طور پر صفر فیصد تبدیلی کو سروسز میں کسی قسم کی کمی کے بغیر مگر 2018 کے منفرد کلیدی عناصر کی بنیاد پر ممکن بنایا گیا ہے۔ تنظیمی طور پر بہتر کارکردگی اور آمدن میں ہونے والے غیر معمولی اضافے کے ثمرات کو سٹی نے اپنے ٹیکس دہندگان تک پہنچایا ہے۔ ان عوامل اور وفاقی حکومت کی جانب سے میونسپلٹیوں کو گیس ٹیکس کی فنڈنگ کو دوگنا کرنے کے عزم کے سبب 2019-2021 کے بجٹ میں سرمایہ کاری کی کلیدی حکمت عملیوں کے شعبوں کو رقم فراہم کرنے میں مدد حاصل ہوئی ہے۔

2019-2021 بجٹ کی سرخیاں

1. معیار زندگی میں بہتری لانا

- تین سال کے عرصہ میں 46 عدد روایتی بسوں اور 25 عدد زوم بسوں کا اضافہ کرنا
- بزرگ شہریوں کے لیے \$15 ماہانہ کا ایک نیا ٹرانزٹ پاس
- شمال مغربی برامپٹن میں ایک نئے فائر اسٹیشن کا قیام؛ کاروائی کی زیادہ بھروسہ مند صلاحیت کے لیے آگ سے لڑنے کے سامان اور آلات کی تجدید کرنا۔
- کرس گیسن، ہاؤڈن اور بالمورل ریکرینیشن سنٹرز کو بحال کرنا؛ چنگواکوسی ویلنٹس سنٹر کی تجدید کرنا؛ رورسٹون گلف کلب کو 34,000 مربع فٹ رقبہ کے ایک کمیونٹی سنٹر میں تبدیل کرنا۔
- کمیونٹی کی حفاظت کی ترغیبات میں ایک پبلک سیفٹی پروجیکٹ کا آغاز

2. اپنی معیشت کو بڑھانا

- ایک نیا مارکیٹنگ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ (FDI) پروگرام تشکیل دینا؛ اور برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان میں متعین شدہ معاشی شعبوں کو تحریک دینے کے لیے ایک کمیونٹی امپروومنٹ پلان کی تیاری
- ایک سنٹر فار انویشن اینڈ کنیکٹڈ لرننگ قائم کرنے کے لیے کام کرنا
- [رورواک](#) پراجیکٹ کے لیے ماحولیاتی جائزہ لینا اور ایک اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کا نفاذ کرنا۔

3. بہتر نظم و نسق والا شہر ہونا

- باسپٹل لیوی جو سابقہ ٹیکس بلوں میں موجود تھی، وہ اب مکمل ہو چکی ہے اور اس سے جمع ہونے والی رقم کو پیل میموریل سنٹر کے فیز 2 کے لیے مہیا کر دیا جائے گا
- سڑکوں، پلوں، کمیونٹی سنٹرز اور دیگر اثاثہ جات کی مرمت کے لیے انفراسٹرکچر لیوی کی مدد میں کیا جانے والا دو فیصد اضافہ جاری رہے گا۔

- مستقبل میں ٹرانزٹ میں بڑھوتری کو پورا کرنے کے لیے فنڈنگ کا ایک وقف کردہ اور مستحکم ذریعہ فراہم کرنے کے لیے ایک فیصد ٹرانزٹ لیوی متعارف کروانا۔
- ٹیکس بل میں سٹی کے حصے میں صفر فیصد اوسط اضافہ کرنے کے لیے بجٹ میں متعلقہ لیویز کو رکھا گیا ہے

لنکس

[کونسل کی ترجیحات کی مدت اور برامپٹن 2040 ویژن](#)

[سٹی آف برامپٹن کا بجٹ بیج](#)

اقتباسات

"یہ کونسل فخر محسوس کر رہی ہے کہ اس نے اعلیٰ معیار کے پروگراموں اور سروسز کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ کیے بغیر اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے اور اپنے ٹیکسوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ بھی نہیں کیا۔ ہم نقل و حمل کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاریاں کر رہے ہیں اور معاشی بڑھوتری کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ جب برامپٹن 2040 کے ویژن کے مطابق مزید آگے بڑھے گا، تو آنے والے سالوں کے دوران ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ساتھ سرمایہ کاریوں کی ضرورت پیش آئے گی۔"

- میئر پیٹرک براؤن، چیئر آف بجٹ کمیٹی

"ہمارے 2019-2021 کے بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیونٹی کی فیڈبیک انتہائی اہم تھی اور ہم اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے برامپٹن کو ترقی دینے کے لیے ہماری مدد میں انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ نقل و حمل کے روابط، پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن اور ایک قابل اعتبار انفراسٹرکچر جیسے ترجیحی شعبوں، جو برامپٹن میں کاروباری اداروں کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کے لیے اہم ہیں، میں کونسل کی مدت کے دوران پیش رفت کرنے کے لیے ہم اعلیٰ حکومتی سطحوں پر کام کرنا بھی جاری رکھیں گے۔"

- ریجنل کونسلر پال ویسینٹے، وائس چیئر آف بجٹ کمیٹی

"بڑھوتری کو درپیش چیلنجز کے ساتھ اختراعی طریقوں سے نبرد آزما ہونے اور یہ تاریخی بجٹ کرنے پیش کرنے کے لیے درکار تنظیمی اور معاشی استعداد کو بڑھانے پر میں عملہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہتر معاشی صورت حال اور مؤثر منصوبہ بندی کی بدولت ہی ہم ٹیکس دہندگان کی کچھ دادرسی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ چونکہ برامپٹن، کینیڈا بھر میں اور اس سے آگے بھی ایک ممتاز شہر بننے کے سفر پر گامزن ہے، لہذا ہم پر بڑھوتری کا دباؤ جاری رہے گا اور ہم آگے بڑھنے کا یہ سفر جاری رکھنے کے لیے موزوں شعبوں میں سرمایہ کاریاں کریں گے۔"

- جو ہٹاری، ایگزیکٹنگ چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر

30--

سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں www.brampton.ca یا ہمیں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

